

<i>Gebete (Myaar-e-Soim)</i>	دعائیں (معیارِ سوئم)
vor dem Essen	کھانا شروع کرنے کی دعا
بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَكَتِهِ	
Im Namen Allahs und mit Allahs Segnungen.	اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی برکت کے ساتھ (شروع کرتا ہوں)۔
nach dem Essen	کھانے کے بعد کی دعا
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	
Aller Preis gebührt Allah, Der uns zu essen und zu trinken gegeben und uns zu Muslimen gemacht hat.	تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں فرمانبرداروں میں سے بنایا۔
zum Schlafengehen	سونے کے وقت کی دعا
اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا	
O Allah, mit deinem Namen sterbe ich und mit Deinem Namen stehe ich wieder auf.	اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے ہی زندہ ہوتا ہوں۔
nach dem Aufwachen	بیدار ہونے کے بعد کی دعا
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ	
Alle Lobpreisungen gelten Allah, Der uns nach dem Sterben wieder belebt hat und zu Ihm ist die Rückkehr.	تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
beim Eintreten in die Moschee	مسجد میں داخل ہونے کی دعا
بِسْمِ اللّٰهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَاَفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ	
Im Namen Allahs und Friede und Segnungen seien auf dem Propheten Allahs. O Allah, vergebe meine Sünden und öffne mir die Türen Deiner Barmherzigkeit.	اللہ کے نام کیساتھ رحمت اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر۔ اے اللہ بخش دے مجھے میرے گناہ اور کھول دے میرے لئے دروازے اپنی رحمت کے۔
beim Verlassen der Moschee	مسجد سے نکلنے کی دعا
بِسْمِ اللّٰهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَاَفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ	

Im Namen Allahs und Friede und Segnungen seien auf dem Propheten Allahs. O' Allah, vergebe meine Sünden und öffne mir die Türen Deiner Huld.	اللہ کے نام کیساتھ رحمت اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر۔ اے اللہ بخش دے مجھے میرے گناہ اور کھول دے میرے لئے دروازے اپنے فضل کے۔
für Wissenserweiterung	علم بڑھانے کی دعا
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا	
O mein Herr, mehre mich an Wissen	اے میرے رب! میرے علم کو بڑھا۔
für die Eltern	والدین کے حق میں دعا
رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَأَيْتَنِي صَغِيرًا	
O mein Herr, sei Barmherzig zu ihnen (meinen Eltern), wie sie mich als Kleines betreuten.	اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے اس وقت مجھے پالا جب کہ میں بہت چھوٹا تھا۔
beim Wudhu	وضو کی دعا
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ	
O Allah, mach mich zu einem derjenigen, die ihre Sünden bereuen, und zu einem derjenigen, die sich rein und sauber halten.	اے میرے رب مجھے بنا توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے بنا پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے۔
beim Heimkehren	گھر میں داخل ہونے کی دعا
اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْجِئِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَجِئْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا	
O Allah, ich erbitte von Dir Gutes beim Heimkehren und beim Hinausgehen. Mit dem Namen Allahs treten wir ein und vertrauen auf Allah, unserem Herrn.	اے اللہ میں تجھ سے گھر میں آتے ہوئے اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔
vor einem Reiseantritt	سفر پر روانہ ہونے کی دعا
سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ	
Alle Herrlichkeit gebührt Ihm, Der es (Fortbewegungsmittel) uns dienlich gemacht hat, während wir doch kein Vermögen hatten, es zu beherrschen. Wahrlich, wir werden alle zu Ihm zurückkehren.	پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اسے مسخر کیا اور ہم اس پر قابو نہیں پاسکتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔

beim Blick in den Spiegel	آئینہ دیکھنے کی دعا
اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي	
O Allah, wie Du meine Schöpfung schön gemacht hast, so schenke mir auch schöne Moral.	اے اللہ! خوبصورت شکل و شباہت بھی تیری عطا ہے۔ میرے اخلاق بھی حسین اور خوبصورت بنا۔
beim Fastenbrechen	روزہ افطار کرنے کی دعا
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُومْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ	
O Allah, für Dich allein habe ich gefastet, und ich glaube und vertraue Dir und ich breche das Fasten mit dem, womit Du mich versorgt hast.	اے اللہ! میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی میں نے توکل کیا اور تیرے دیئے ہوئے رزق سے افطار کیا۔
Gebete aus dem Heiligen Qurân (Al-Mominun:119)	قرآنی دعائیں (المومنون۔119)
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ	
Mein Herr, vergib und habe Erbarmen, denn Du bist der beste Erbarmer.	اے میرے رب! معاف کر، اور رحم کر اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔
Gebete aus dem Heiligen Qurân (Al-Imran:9)	قرآنی دعائیں (آل عمران۔9)
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ	
Unser Herr, lass unsere Herzen nicht verderbt werden, nach dem Du uns geleitet hast, und gewähre uns Gnade von Dir; gewiss Du allein bist der Gewährende.	اے ہمارے رب! تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت (کے سامان) عطا کر۔ یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔